

الْأَنْعَمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے پیدا کیا
آسمانوں اور زمین کو اور بنائے اندھیرے اور
روشنی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
(دوسری ہستیوں کو) اپنے رب کے برابر
ٹھہراتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر
مقرر کر دیا (موت کا) ایک وقت۔ اور ایک
وقت (قیامت کا) مقرر ہے اسکے پاس۔ پھر
بھی تم شک میں مبتلا ہو۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ
ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾

اور وہی تو ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں۔
جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری
(باتیں) اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم جو کاتے ہو۔

وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَ فِي
الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ
وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانوں میں سے ان کے رب کی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٤﴾

سو بیشک انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب وہ آیا انکے پاس۔ سو عنقریب آجائے گی انکے پاس خبر اس کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٥﴾

کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے ایسی امتیں اقدار دیا تھا ہم نے جن کو زمین میں ایسا جو نہیں اقدار دیا ہم نے تم کو۔ اور برسایا ہم نے آسمان سے ان پر موسلا دارینہ۔ اور بنا دیں ہم نے نہریں جو بہ رہی تھیں ان کے (مکانوں کے) نیچے پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب اور پیدا کر دیں ہم نے ان کے بعد امتیں دوسری۔

الَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنُّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ۖ وَ جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٤٦﴾

اور اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب (لکھی ہوئی) کاغذ پر پھر یہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ

سے۔ تو ضرور کہہ دیتے وہ جہنوں نے کفر کیا کہ
نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔

كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ ﴿٧﴾

اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کیا گیا اس پر فرشتہ۔
اور اگر نازل کرتے ہم فرشتہ تو ہو چکا ہوتا فیصلہ۔
پھر نہ انہیں مہلت دی جاتی۔

وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ
ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٨﴾

اور اگر بناتے ہم اسے فرشتہ تو بناتے ہم اسے
آدمی ہی۔ اور ڈال دیتے ہم اسی شبہ میں
انہیں۔ وہی جس شبہ میں وہ مبتلا ہیں۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ
رَجُلًا وَّ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا
يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾

اور بیشک مذاق اڑایا جاتا رہا ہے رسولوں کا تم
سے پہلے بھی۔ تو آگھیرا ان لوگوں کو جو مذاق
اڑاتے تھے ان میں سے اس (چیز) نے جس
کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

کہو کہ چلو پھرو زمین میں۔ پھر دیکھو کہ کیسا ہوا
انجام جھٹلانے والوں کا۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ اَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

کہو کہ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور
زمین میں۔ کہو اللہ ہی کا ہے۔ لازم کر لیا

قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلٰی

ہے اس نے اپنی ذات پر رحمت کو۔ یقیناً جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن۔ نہیں شک جس میں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈال رکھا ہے اپنے آپکو تو وہ نہیں ایمان لاتے۔

نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں۔ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

کو کیا سوا اللہ کے میں بناؤں (کسی کو) مددگار۔ پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا۔ اور وہی کھلاتا ہے اور نہیں وہ خود کسی سے کھانا لیتا۔ کہدو کہ بیشک مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا ان میں جو فرمانبردار ہوئے اور نہ ہرگز ہونا تم ان میں سے جو شرک کرتے ہیں۔

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

کو یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب سے ایک بڑے دن کے۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

وہ ٹال دیا گیا جس سے اس دن (عذاب) تو یقیناً

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

رَحْمَةً وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

رحم کیا اسنے اسپر۔ اور یہی کھلی کامیابی ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی سختی تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اسکا سوائے اسکے۔ اور اگر عطا کرے وہ تجھ کو بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اور وہ ہے حکمت والا باخبر۔

قُلْ أُمِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

کہو کہ کس کی ہے سب سے بڑھ کر گواہی۔ کہہ دو کہ اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈرا دوں تم کو اسکے ذریعے سے اور وہ جس تک یہ پہنچ سکے۔ کیا بیشک تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود ہیں دوسرے۔ کہہ دو کہ نہیں میں ایسی شہادت دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی معبود واحد ہے اور یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ

وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ

پہچانتے ہیں اس کو جس طرح وہ پہچانتے ہیں
اپنے بیٹوں کو۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں
ڈال رکھا اپنی جانوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے۔

كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ ۗ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ^ع

اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے بہتان
باندھا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اسکی آیتوں کو۔
بیشک نہیں فلاح پاتے ظالم۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا
يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ^ح

اور جس دن جمع کریں گے ہم سب کو اکھٹا پھر
کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک
کیا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک وہ جن کا تم
دعویٰ کرتے تھے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمْ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ^ج

پھر نہ بن پڑے گا ان سے کچھ عذر سوائے یہ کہ
کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہیں
تھے ہم شرک کرنے والے۔

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ^د

دیکھو کیسا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی
جانوں پر اور گم ہو گئے ان سے جو کچھ یہ افترا کیا
کرتے تھے۔

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ^ط

اور ان میں بعض وہ ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری طرف۔ اور ڈال دیئے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ (نہ) سمجھ سکیں وہ اس کو اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں۔ اور اگر دیکھ لیں وہ ہر ایک نشانی تو نہ ایمان لائیں اس پر۔ یہاں تک کہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو جھگڑتے ہیں تم سے۔ کہتے ہیں وہ جہنوں نے کفر کیا کہ نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں اگلوں کی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا
يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُكَ
بُيُوتُكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

اور وہ روکتے ہیں اس سے (دوسروں کو) اور پرے رہتے ہیں خود بھی اس سے۔ اور نہیں ہلاک کرتے ہیں مگر اپنی جانوں کو اور نہیں وہ رکھتے کچھ بھی شعور۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ
وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

اور کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ کھڑے کئے جائیں گے دوزخ پر۔ پھر کہیں گے یہ اے کاش لوٹا دیئے جائیں ہم اور نہ تکذیب کریں ہم آیتوں کی اپنے رب کی اور ہو جائیں ہم ایمان لانے والوں میں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ
فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَ نَكُونُ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

بلکہ ظاہر ہو گیا ہے ان پر جو کچھ چھپایا کرتے تھے

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ

اس سے پہلے۔ اور اگر یہ لوٹائے بھی جائیں تو پھر کرنے لگیں گے وہی منع کیا گیا تھا ان کو جس سے اور بیشک یہ سخت جھوٹے ہیں۔

مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا
كُفُّوْا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾

اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی۔ اور نہیں ہم پھر زندہ کئے جائیں گے۔

وَ قَالُوْا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا
وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾

اور کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ کھڑے کئے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ وہ فرمانے لگا کیا نہیں یہ حق۔ وہ کہیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ وہ فرمانے گا تو چکھو مزا عذاب کا بسبب اسکے جو کفر تم کیا کرتے تھے۔

وَ لَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ
قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى
وَ رَبِّنَا قَالَ فذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾

بیشک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو۔ یہاں تک کہ جب آ موجود ہوگی ان پر وہ گھڑی اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اس پر جو کوتاہی کی ہم نے اس کے بارے میں۔ اور وہ اٹھائے ہوئے ہونگے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ دیکھو برا ہے جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ
اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً
قَالُوْا لِيْحْسَرْتُنَا عَلٰى مَا فَرَطْنَا فِيْهَا
وَ هُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى
ظُهُوْرِهِمْ اِلَّا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

اور نہیں زندگی دنیا کی مگر ایک کھیل اور مشغلہ۔

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَ هُوَ

اور یقیناً گھر تو آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا نہیں تم سمجھتے۔

وَالَّذِينَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ ضرور رنج پہنچاتی ہیں تمہیں وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ۔ تو درحقیقت یہ نہیں تکذیب کرتے تمہاری بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

اور یقیناً جھٹلانے جا چکے ہیں رسول تم سے پہلے بھی۔ تو صبر کیا انہوں نے اس پر جو تکذیب کی گئی ان کی اور جو ایذا دی گئی ان کو یہاں تک کہ آپہنچی ان کے پاس ہماری مدد۔ اور نہیں کوئی بدلنے والا باتوں کو اللہ کی۔ اور یقیناً پہنچ چکی ہیں تمہارے پاس خبریں رسولوں کی۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّ الْأُمُوسَلِينَ ﴿٣٤﴾

اور اگر شاق گذرتی ہے تم پر ان کی روگردانی تو اگر تم سے ہو سکے تو ڈھونڈ نکالو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیرھی آسمان میں پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ۔ اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا سب کو ہدایت پر۔ پس نہ ہرگز ہونا تم

وَ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٥﴾

جاہلوں میں -

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾

در حقیقت (حق) قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے
ہیں۔ اور جو مردے ہیں تو اٹھانے گا انہیں
اللہ پھر اسی کی طرف وہ لوٹانے جائیں گے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی
نشانی اس کے رب کے پاس سے۔ کمدو یقیناً
اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی لیکن
ان میں اکثر نہیں جانتے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ
أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾

اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار زمین میں اور
نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں پر مگر امتیں
میں تمہاری طرح کی۔ نہیں کسر چھوڑی ہم نے
کتاب میں کسی بات (کے لکھنے) میں۔ پھر
اپنے رب کی طرف وہ جمع کئے جائیں گے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ
وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ
يُضِلَّهُ وَ مَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔
بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں پڑے
ہوئے۔ جسکو چاہے اللہ اس کو گمراہ رہنے دے
اور جسکو چاہے وہ ڈال دے اسکو سیدھے راستے پر۔

کو بھلا دیکھو تو تم اگر آجائے تم پر عذاب اللہ کا
یا موجود ہو تم پر قیامت۔ تو کیا سوائے اللہ
کے تم (کسی اور کو) پکارو گے اگر ہو تم سچے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ
اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ غَيْرَ اللَّهِ
تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو تو وہ دور کر دیتا ہے
اس (مصیبت) کو پکارتے ہو تم جس کے لئے
اگر وہ چاہتا ہے اور بھول جاتے ہو تم انہیں
جنکو تم شریک بناتے ہو۔

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسَوْنَ
مَا تَشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾

اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں کی
طرف تم سے پہلے۔ پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں
سختیوں میں اور تکلیفوں میں تاکہ وہ عاجزی
کریں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَأَخَذْتَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾

پھر کیوں نہیں جب آئیں ان پر سختیاں ہماری
طرف سے تو انہوں نے عاجزی کی۔ لیکن
سخت ہو گئے ان کے دل اور آراستہ کر دیے
انکے لئے شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت انکو کی
گئی تھی تو کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا

فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَهُمْ بَغْتَةً
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

ہر چیز کے۔ یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے
ان چیزوں سے جو انکو دی گئی تھیں تو پکڑ لیا ہم
نے انکو ناگماں تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

تو کاٹ دی گئی جو انلوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا
اور تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب العالمین ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ
سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ اللَّهُ
يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

کو بھلا دیکھو تو اگر لے جائے اللہ تمہاری
سماعت اور تمہاری بصارت اور مہر لگا دے
تمہارے دلوں پر تو کون معبود ہے سوائے اللہ
کے جو واپس لادے تمہیں یہ چیزیں۔ دیکھو کس
طرح بیان کرتے ہیں ہم آیتیں۔ پھر بھی وہ
روگردانی کئے جاتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ
اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ
إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

کو بھلا دیکھو تو اگر آجائے تم پر عذاب اللہ کا
ناگماں یا اعلانیہ تو نہیں ہلاک ہو گئے مگر وہی
لوگ جو ظالم ہیں۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

اور نہیں بھیجتے رہے ہیں ہم رسولوں کو مگر
خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ تو پھر
جو ایمان لائیں اور اصلاح کر لیں تو نہ خوف ہو گا
ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پہنچے گا انکو عذاب بسبب جو نافرمانیاں وہ کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

کہہ دو کہ نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس میں خزانے اللہ کے اور نہ جانتا ہوں میں غیب اور نہ کہتا ہوں میں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ کہہ دو کہ کیا برابر ہوتے ہیں اندھا اور آنکھ والا۔ تو کیا نہیں تم غور کرتے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ
لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى
إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

اور نصیحت کرو اس (قرآن) سے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ جمع کئے جائیں گے اپنے رب کے روبرو۔ نہیں ہے ان کا اسکے سوا کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا۔ تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ
يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ وَّلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

اور نہ دور ہٹاؤ اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ طالب ہیں وہ اسکی توجہ کے۔ نہیں تم پر انکے حساب میں سے کسی چیز کی (جو ابھی) اور نہ تمہارے حساب میں سے ان پر کسی چیز

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

کی (جوابدہی)۔ پس دور ہٹادیا تم نے انکو تو
ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

اور اسی طرح آزمائش کی ہے ہم نے بعض
لوگوں کی بعض سے تاکہ کہیں وہ کیا یہی لوگ
میں فضل کیا ہے اللہ نے جن پر ہمارے
درمیان میں سے۔ کیا نہیں ہے اللہ خوب
واقف شکر کرنے والوں سے۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ
سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا
وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان
لاتے ہیں ہماری آیتوں پر تو کہو سلام ہو تم پر۔
لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات
پر رحمت کو۔ کہ جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے کوئی
برائی نادانی سے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور
اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بخشے والا مہربان ہے۔

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ
سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

اور اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں ہم
آیتیں تاکہ مکمل ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا۔

قُلْ إِنِّي مُهِيتٌ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا

کمدو بیشک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت
کروں ان کی جنکو تم پکارتے ہو سوائے اللہ

کے۔ کہدو کہ نہیں پیروی کرونگا میں تمہاری
خواہشوں کی۔ یقیناً گمراہ ہو جاؤنگا میں تب تو اور
نہ (رہوں گا) میں ہدایت یافتہ لوگوں میں۔

اتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتَ إِذَا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

کہدو یقیناً میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی
طرف سے اور تم تکذیب کرتے ہو اسکی۔
نہیں ہے میرے پاس وہ جلدی کر رہے ہو تم
جس کے لئے۔ نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر
اللہ ہی کو۔ بیان فرماتا ہے وہ حق بات اور وہ
ہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَصِلِينَ ﴿٥٧﴾

کہدو اگر یہ کہ میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جلدی
کر رہے ہو تم جس کے لئے تو ہو چکا ہوتا فیصلہ
میرے اور تمہارے درمیان۔ اور اللہ خوب
واقف ہے ظالموں سے۔

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

اور اسی کے پاس میں کنجیاں غیب کی۔ نہیں
جانتا جنکو سوائے اسکے۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ
ہے خشکی میں اور سمندر میں اور نہیں جھرتا کوئی
پتا مگر جانتا ہے وہ اسکو اور نہ کوئی دانہ زمین
کے اندھیروں میں اور نہ کوئی ہری اور نہ سوکھی

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا
هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ

وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥١﴾

(چیز) مگر ایک روشن کتاب میں (درج) ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ
يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری
رات کے وقت اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو
دن میں۔ پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں تاکہ
پوری کر دی جائے مدت معین۔ پھر اسی کی
طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے پھر بتا دے
گا وہ تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٥٣﴾

اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اور بھیجتا ہے
تم پر نگہبان (فرشتے) یہاں تک کہ جب آتی
ہے تم میں سے کسی کی موت تو روح قبض کر
لیتے ہیں اسکی ہمارے فرشتے اور وہ نہیں
کرتے کوتاہی۔

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
إِلَّا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
الْحَسِيبِينَ ﴿٥٤﴾

پھر لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو
مالک ہے انکا برحق۔ سن لو کہ اسی کا ہے
علم اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلْمَتِ الْبَرِّ
قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلْمَتِ الْبَرِّ

کہو کہ کون نکال لاتا ہے تم کو اندھیروں سے صحرا

اور سمندر کے جب پکارتے ہو تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ اگر نجات بخشے وہ ہم کو اس سے تو ضرور ہوں گے ہم شکر کرنیوالوں میں۔

وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
لَّيِّنًا أُنْجِنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

کہو کہ اللہ ہی نجات بخشتا ہے تم کو اس سے اور ہر سختی سے پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔

قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ
كَرْبٍ تُمْ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

کہدو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا نیچے سے تمہارے پیروں کے یا بھڑا دے تمہیں فرقہ فرقہ کر کے اور چکھا دے مزہ تم میں ایک گروہ کو آپس کی لڑائی کا دوسرے سے۔ دیکھو کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں ہم آیتوں کو تاکہ وہ سمجھیں۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ
تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ
كَيْفَ نُصِرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

اور جھٹلایا اس (قرآن) کو تیری قوم نے اور وہ حق ہے۔ کہدو نہیں ہوں میں تم پر داروغہ۔

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ
لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

ہر خبر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔

لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں تو منہ پھیر لو ان سے۔ یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں ایسی بات میں جو اسکے سوا ہو۔ اور اگر بھلا دے تمہیں شیطان تو نہ بیٹھے رہو یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔

وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

اور نہیں ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں ان (جھگڑنے والوں) کے حساب میں سے کچھ بھی (جوابدہی)۔ لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ پرہیزگار ہوں۔

وَ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ لَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انکو دنیا کی زندگی نے۔ اور نصیحت کرتے رہو اس (قرآن) سے تاکہ (نہ) پکڑا جائے کوئی شخص بسبب جو اس نے کمایا۔ نہیں ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا۔ اور اگر فدیہ میں دے وہ ہر

وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ هُؤُلَاءِ وَ غَرَّتَّهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَ ذَكَرُوا بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ^{صَلَّى} لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ ^ج وَ إِنْ تَعَدِلْ كُلٌّ عَدْلٍ ^ط لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ

قسم کا معاوضہ تو نہ قبول ہو وہ اس سے۔ یہی
میں وہ لوگ جو پکڑے گئے بسبب جو انہوں نے
کمایا۔ انکے لئے ہے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور
عذاب دردناک اس لئے کہ وہ کفر کرتے تھے۔

أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ^ع

کہو۔ کیا پکاریں ہم سوائے اللہ کے اسے جو نہ
نفع پہنچا سکے ہمیں اور نہ ہمارا نقصان کر سکے۔ اور
(کیا) پھر جائیں ہم اٹے پیروں اسکے بعد کہ
ہدایت دے چکا ہے ہمیں اللہ۔ (تو ہماری
مثال ہوگی) اس شخص کی طرح جسے بھٹکا دیا ہو
شیاطین نے زمین میں تو وہ حیران ہو۔ اسکے
ہوں رفیق جو بلا تے ہوں اسکو ہدایت کی طرف
کہ ہمارے پاس آ۔ کدو در حقیقت اللہ کی
ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور حکم دیا گیا
ہے ہمیں کہ ہم فرمانبردار ہو جائیں اس کے جو
رب ہے سارے جانوں کا۔

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ
عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا
اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ
فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ^ص لَهُ
أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ
أَتَيْنَا قُلًّا^ط إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ وَ أَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ^ل لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ^ع

اور یہ کہ قائم رکھو نماز اور ڈرتے رہو اس سے۔
اور وہ ہی ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ
گے۔

وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا^ط
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^ع

اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو برحق۔ اور جس دن وہ فرمانے گا کہ ہو جا تو (حشر برپا) ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد برحق ہے اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن چھونکا جائے گا صور میں۔ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا اور وہی حکمت والا ہے بانبر ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ﴿٧٣﴾

اور جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود۔ بیشک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْرَأْتَنِي أَخَذُ اصْنَامًا آهَةً إِنِّي آراؤكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

اور اسی طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔

وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

پھر جب چھا گئی اس پر رات (کی تاریکی) تو دیکھا اس نے ایک ستارہ۔ کہا اس نے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿٧٦﴾

پھر جب دیکھا اس نے چاند کو چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر نہ ہدایت دے مجھے میرا رب تو یقیناً میں ہو جاؤں گا ان لوگوں میں جو بھٹک رہے ہیں۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾

پھر جب دیکھا اس نے سورج کو روشن تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم بیشک میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ جَازِعَةً قَالَ
هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ
قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

بیشک میں نے کر لیا اپنا رخ اسی ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

اور جھکڑنے لگی اس سے اسکی قوم تو کہا اس نے کیا جھکڑتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں اور یقیناً ہدایت دی ہے اس نے مجھے۔ اور نہیں ڈرتا میں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو اس کا۔ مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ۔

وَ حَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُّونِي فِي
اللَّهِ وَ قَدْ هَدَانِي وَ لَا أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي
شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

احاطہ کئے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کا علم سے
- تو کیا نہیں تم غور کرتے۔

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

اور کیونکر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک
بناتے ہو تم۔ اور نہیں ڈرتے تم اس بات
سے کہ شریک بناتے ہو تم اللہ کے ساتھ ان
کو نہیں نازل کی اس نے جسکی تم پر کوئی
دلیل۔ تو کونسا دونوں فریقوں میں سے زیادہ
حقدار ہے بے خوفی کا اگر تم جانتے ہو۔

وَكَيفَ أَخَاذُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَ لَا
تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا
لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملوث کیا
انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ وہی
لوگ ہیں جن کے لئے بے خوفی ہے اور وہی
ہدایت پانے والے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے
ابراہیم کو اسکی قوم کے مقابلے میں۔ بلند کر
دیتے ہیں ہم درجات جسکے چاہتے ہیں۔
بیشک تیرا رب حکمت والا ہے بانہر ہے۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلٰى
قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

اور عطا کئے ہم نے اسکو اسحق اور یعقوب۔
سب کو ہدایت دی ہم نے۔ اور نوح کو ہدایت

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا
هَدَيْنَا وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ

دی تھی ہم نے اس سے پہلے اور اسکی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون (کو بھی ہدایت دی)۔ اور اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں ہم نیکی کرنیوالوں کو۔

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ
وَ أَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَ هَارُونَ
وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس (کو بھی ہدایت دی)۔ یہ سب تھے صالحین میں۔

وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَىٰ وَ عِيسَىٰ
وَ الْيَاسَّ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط (کو بھی)۔ اور سبکو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر۔

وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا
وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

اور ان کے باپ دادوں میں سے اور انکی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے۔ اور منتخب کیا ہم نے انکو اور ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔

وَ مِّنْ آبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ
وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

یہ ہدایت ہے اللہ کی۔ راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعہ سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان سے جو کچھ اعمال وہ کرتے تھے۔

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَوْ
أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

یہی تھے وہ لوگ جنکو عطا فرمائی تھی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت۔ پھر اگر انکار کر دیں ان باتوں سے یہ لوگ تو بیشک مقرر کر دیئے ہیں ہم نے ان کے لئے ایسے اور لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں سے انکار کرنے والے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

یہی تھے وہ لوگ جنکو ہدایت دی تھی اللہ نے تو انہیں کی ہدایت کی تم پیروی کرو۔ کہدو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر۔ نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لئے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اسکی قدر کا۔ جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز۔ کہو کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو جو لے کر آیا تھا موسیٰ نور اور ہدایت لوگوں کے لئے۔ کر دیا جسے تم نے ورق ورق علیحدہ۔ ظاہر کرتے ہو اسکا (کچھ حصہ) اور چھپاتے ہو بہت کچھ۔ اور سکھائی گئیں تمہیں تم کو وہ باتیں نہیں تم جانتے تھے۔ تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہدو اللہ نے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ

پھر چھوڑ دو انکو کہ اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا مُّصَدِّقًا
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے جسے با برکت
- تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس سے پہلے
تھیں اور تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ اور جو اس کے ارد
گرد ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت
پر وہ ایمان لاتے ہیں اس (کتاب) پر اور وہ
اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ
إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ
فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا
أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ
فِي حُجُورِ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ
عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٣﴾

اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے
اللہ پر جھوٹا یا کہے کہ وحی آئی ہے مجھ پر
حالانکہ نہ وحی آئی ہو اس پر کچھ بھی۔ اور جو
کہے کہ میں نازل کرونگا مثل اس کے جو نازل
کیا ہے اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ
ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہونگے اور
فرشتے بڑھا رہے ہونگے اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی
جانیں۔ آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت کا
اس لئے کہ بولا کرتے تھے تم اللہ پر ناحق اور
کرتے تھے تم اسکی آیتوں سے سرکشی۔

اور بیشک تم ہمارے پاس آگئے تنہا ہی جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ۔ اور چھوڑ آئے تم جو کچھ عطا فرمایا تھا ہم نے تم کو اپنی پیٹھ پیچھے اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو وہ جنکو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے (معاہدے) میں (ہمارے) شریک ہیں۔ بیشک منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے (تعلقات) اور کم ہو گئے تم سے جو کچھ دعوے تم کیا کرتے تھے۔

وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ مَا نَدْرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ^ع

بیشک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا۔ وہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور وہی نکالنے والا ہے بے جان کا جاندار سے۔ یہی تو ہے تمہارا اللہ پھر کہاں تم بہکے چلے جاتے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ تُوْفِكُونَ^ط

پھاڑنے والا (رات میں سے) صبح کو۔ اور ٹھہرا دیا اسی نے رات کو موجب آرام اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب کا۔ یہ مقرر کردہ اندازے میں (اس کے جو) غالب ہے علم والا ہے۔

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ^ج

اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لئے
ستارے تاکہ تم راستے معلوم کرو انکے ذریعہ
سے اندھیروں میں صحرا کے اور سمندر کے۔
بیشک کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے آیتیں
ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ
وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان
سے پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک
سپرد کئے جانے کی جگہ ہے۔ بیشک کھول کر
بیان کر دی ہیں ہم نے آیتیں ان لوگوں کے
لئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ﴿١٨﴾

اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی
۔ پھر اگائیں ہم نے اس سے نباتات ہر طرح
کی۔ پھر نکالے ہم نے اس میں سے سبز
پودے۔ نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے
تہ بہ تہ۔ اور کھجور کے درخت میں سے اس
کے خوشوں کے گچھے لکھتے ہوئے اور باغات
انگوروں کے اور زیتون اور انار کے ایک
دوسرے سے ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے
جلتے۔ نظر کرو ان کے پھلوں پر جب وہ

وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُّخْتَلِجًا مِنْهُ
حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ
أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى

پھل لائیں اور انکے پختے پر۔ یقیناً ان میں
نشانیوں میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان
لائے ہیں۔

ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾

اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کا شریک جنوں
کو حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے ان کو۔ اور گھڑ
لئے ہیں انہوں نے اسکے لئے پیٹے اور بیٹیاں
بغیر علم کے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے ان باتوں
سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَ تَعَالٰی عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٦٢﴾

ابتداء سے تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں کا اور
زمین کا۔ کہاں سے ہو سکتی ہے اسکے اولاد
حالانکہ نہیں ہے اسکی کوئی بیوی۔ اور پیدا کیا
ہے اس نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز سے
باخبر ہے۔

بَدِيعِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنۢىٰ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنۡ لَّهِ صٰحِبَةً وَّ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

یہی ہے اللہ تمہارا رب۔ نہیں ہے کوئی
معبود سوائے اسکے۔ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز
کا تو عبادت کرو اسی کی۔ اور وہ ہر چیز پر
نگران ہے۔

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَّ كِيْلٌ ﴿٦٤﴾

نہیں ادراک کر سکتیں اسکا نگاہیں۔ اور وہ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ

ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا۔ اور وہ بھید جاننے والا ہے باخبر ہے۔

الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٣﴾

بیشک پہنچ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جس نے آنکھ کھول کر دیکھا سو اس نے اپنے واسطے کیا۔ اور جو اندھا بنا رہا تو وہ اس کے اپنے اوپر۔ اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٤﴾

اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں اور تاکہ یہ (نہ) کہیں کہ تم نے (کسی سے) پڑھا ہوا ہے اور تاکہ تشریح کر دیں ہم ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔

وَ كَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جاتا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اور کنارہ کر لو مشرکوں سے۔

إَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦﴾

اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے یہ لوگ۔ اور نہیں مقرر کیا ہم نے تمکو ان پر نگہبان۔ اور نہیں ہو تم ان کے اوپر کوئی داروفہ۔

وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَ مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧﴾

اور نہ برا کہو ان کو جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا کہ یہ کہنے لگیں برا اللہ کو گستاخی سے بغیر سمجھے۔ اسی طرح اچھے کر دکھانے میں ہم نے ہر ایک امت کو انکے اعمال۔ پھر اپنے رب کی طرف انکو لوٹ کر جانا ہے تب وہ بتانے گا انکو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت اپنی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ کہدو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ (نشانیاں) جب آجھی جائیں (تب بھی) نہیں یہ ایمان لائیں گے۔

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

اور الٹ دیں گے ہم انکے دلوں کو اور انکی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لانے اس (قرآن) پر پہلی مرتبہ اور چھوڑ دیں گے ہم انکو کہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں۔

وَنَقَلِبْ أَيْدِيَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

اور اگر ہم اتار دیتے ان پر فرشتے اور گفتگو کرنے لگتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ہم ان

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ

کے لئے ہر چیز ان کے سامنے تو بھی نہ تھے
وہ کہ ایمان لے آتے۔ مگر یہ کہ چاہے اللہ۔
لیکن ان میں اکثر نادان ہیں۔

كُلِّ شَيْءٍ قَبْلًا مَّا كَانُوا لِيَوْمِنَا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے دشمن
شیاطین کو انسانوں اور جنوں میں سے۔ ڈالتے
رہتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کی طرف
ملع کی ہوئی باتیں دھوکا دینے کے لئے۔ اور
اگر چاہتا تیرا رب تو نہ کرتے وہ ایسا۔ سو چھوڑ دو
ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
شَيْطَانًا الْإِنْسِي وَالْجِنِّي يُوحِي
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

اور تاکہ مانل ہوں ان (باتوں) کی طرف دل
ان لوگوں کے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر
اور پسند کریں وہ انہیں اور تاکہ کرتے رہیں وہی
(برے کام) جو وہ کرتے ہیں۔

وَ لَتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفِئْدَةُ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لَيَرْضَوهُ
وَ لَيَقْتَرِفُو مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

تو کیا سوا اللہ کے تلاش کروں میں فیصلہ کرنے
والا حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے
تمہاری طرف کتاب صاف مضامین والی۔ اور
وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب وہ جانتے
ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
وَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ
أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّينَ ﴿١١٤﴾

طرف سے برحق سونہ ہرگز ہونا تم شک کرنے والوں میں۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

اور پوری ہیں باتیں تیرے رب کی سچائی اور انصاف میں۔ نہیں کوئی بدلنے والا اسکی باتوں کو۔ اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

اور اگر کہا مان لو گے تم اکثر کا جو زمین میں ہیں تو گمراہ کر دیں گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی اور نہیں ہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے۔ اور وہ خوب واقف ہے ان سے جو ہدایت پر ہیں۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

سو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر اگر تم ہو اسکی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ

اور کیا ہوا تمہیں کہ نہ کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر اور وہ واضح کر چکا ہے تمہارے لئے جو حرام ٹھہرا دیا ہے اس نے تم پر مگر یہ

کہ ناچار ہو جاؤ تم اسکے (کھانے کے) لئے۔
 اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں
 (دوسروں کو) اپنے نفس کی خواہشوں کی بنا پر
 بغیر علم کے۔ یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے
 ان کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔

مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
 إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ
 بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپا ہوا بھی۔ یقیناً وہ
 لوگ جو کھاتے ہیں گناہ عنقریب سزا پائیں گے
 وہ اس کی جو برے کام وہ کرتے تھے۔

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ
 الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ
 بِهِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

اور مت کھاؤ اس میں سے نہ لیا جائے نام اللہ
 کا جس پر اور بیشک یہ فسق ہے۔ اور یقیناً
 شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے رفیقوں
 کے تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے اور اگر اطاعت
 قبول کر لی تم نے ان کی تو بیشک تم بھی
 مشرک ہوئے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
 اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ
 الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ
 لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
 إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

اور کیا وہ جو تمہارا مردہ پھر زندہ کیا ہم نے اسکو اور
 عطا کی ہم نے اسکے لئے روشنی۔ چلتا ہے وہ

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
 لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ

جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان۔ کیا وہ ہے
مانند اس کے جو ہے اندھیروں میں اور نہیں
نکل سکتا اس میں سے۔ اسی طرح خوشامیادینے
گئے کافروں کے لئے جو عمل وہ کرتے ہیں۔

مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَةِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِنْهَا ط كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

اور اسی طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں
بڑے بڑے مجرموں کو اس کے کہ وہ مکروفریب
کرتے رہیں اس میں۔ اور نہیں مکروفریب
کرتے وہ مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ اور نہ ہی
وہ کچھ شعور رکھتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا
مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَ مَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ مَا
يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

اور جب آتی ہے انکے پاس کوئی آیت تو کہتے
ہیں ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم یہاں تک
کہ دیا جائے ہم کو جیسا کچھ دیا گیا اللہ کے رسولوں
کو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں عنایت فرمائے
وہ اپنی رسالت۔ عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو
جو جرم کرتے ہیں ذلت اللہ کے پاس سے اور
سخت عذاب اس لئے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ
حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ط
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ط
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِمَّا
كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

پس جس کے لئے ارادہ کرتا ہے اللہ کہ اسے

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ

ہدایت بخشنے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے۔ اور جس کے لئے ارادہ کرتا ہے وہ کہ اسے گمراہ کرے تو کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا۔ گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان پر۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ عذاب ان لوگوں پر نہیں جو ایمان لاتے۔

صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

اور یہی ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ بیشک بیان کر دی میں ہم نے کھول کھول کر آیتیں ان لوگوں کے لئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ط قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

ان کے لئے ہے سلامتی کا گھرانے کے رب کے پاس۔ اور وہی اٹکا ولی ہے بسبب (ان اعمال کے) جو وہ کرتے رہے ہیں۔

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

اور جس دن جمع کرے گا وہ ان کو اکھٹا۔ اے گروہ جنات یقیناً تم نے بہت فائدے حاصل کئے انسانوں سے۔ اور کہیں گے انکے دوست انسانوں میں سے ہمارے رب ہم فائدہ حاصل کرتے رہے ایک دوسرے

وَيَوْمَ يُحْشِرُهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ تَشْرَجُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَّتُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَّغْنَا

سے۔ اور پہنچ گئے ہم اپنے مقرر وقت کو جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لئے۔ فرمانے گا وہ آگ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ رہو گے ہمیشہ اس میں مگر جو چاہے اللہ۔ بیشک تیرا رب بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

أَجَلْنَا الَّذِي أَجَلْت لَنَا قَالَ
النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

اور اسی طرح بنا دیں گے ہم ساتھی بعض ظالموں کو بعض کا بسبب اسکے جو وہ کرتے تھے۔

وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ
بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

اے جماعت جنوں اور انسانوں کی کیا نہیں آتے رہے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے۔ سناتے تھے تم کو میری آیتیں اور ڈراتے تھے تم کو پیشی سے تمہارے اس دن کی۔ کہیں گے وہ گواہی دیتے ہیں ہم خود اپنے ہی خلاف۔ اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اور گواہی دی انہوں نے اب خود اپنے ہی خلاف کہ بلاشبہ وہ تھے کفر کرنے والے۔

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَ يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى
أَنْفُسِنَا وَ غَرَّهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَ شَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَفَرِينَ ﴿١٣٠﴾

یہ اس لئے کہ نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ ہلاک

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ

الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفْلُونَ ﴿١١٦﴾

کر دے بستیوں کو ظلم سے اور وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں۔

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١٧﴾

اور ہر ایک کے درجے میں بلحاظ جو اعمال انہوں نے کئے۔ اور نہیں ہے تیرا رب بیخبران سے جو اعمال یہ کرتے ہیں۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١١٨﴾

اور تیرا رب بے نیاز ہے صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور بنا دے جانشین تمہارے بعد جس کو چاہے جیسا کہ پیدا کیا ہے اس نے تم کو اولاد سے دوسرے لوگوں کی۔

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأْتٍ وَّ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١١٩﴾

بیشک جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے۔ اور نہیں تم (اللہ کو) عاجز کرنے والے۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢٥﴾

کہدو اے لوگوں تم عمل کئے جاؤ اپنی جگہ یقیناً میں عمل کر نیوالا ہوں (اپنی جگہ)۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے ہوگا جس کے لئے آخرت کا گھر۔ بیشک نہیں فلاح پائیں گے ظلم کر نیوالے۔

اور مقرر کرتے ہیں یہ اللہ کے لئے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی میں اور مویشیوں میں ایک حصہ۔ پس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لئے ہے انکے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کے لئے ہے۔ سو جو ہوتا ہے انکے شریکوں کا تو نہیں پہنچتا وہ اللہ کی طرف۔ اور جو ہوتا ہے اللہ کا تو وہ پہنچ جاتا ہے انکے شریکوں کی طرف۔ برا ہے جو حکم یہ لگاتے ہیں۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا
كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ
إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ﴿١١٦﴾

اور اسی طرح خوش نما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لئے قتل کرنا اپنی اولاد کا ان کے شریکوں نے۔ تاکہ ہلاکت میں ڈال دیں انہیں اور تاکہ غلط ملط کر دیں ان پر ان کے دین کو۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ ایسا۔ سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے ہیں۔

وَ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ
شُرَكَائِهِمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا
عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٧﴾

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے۔ نہیں کھانے اسے سوائے اس کے جسے ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق۔ اور

وَ قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَرْثٌ
جِجْرٌ^ط لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ
نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ

بعض جانور ہیں کہ ممنوع کر دی گئی ہیں انکی پیٹھیں (سواری کے لئے)۔ اور بعض جانور کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر۔ جھوٹ باندھتے ہوئے اس (اللہ) پر۔ عنقریب بدلہ دے گا وہ ان کو اسکا جو جھوٹ وہ باندھتے ہیں۔

ظُهُورُهَا وَ أَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ
سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پیٹھوں میں ہے ان مویشیوں کے وہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے لئے۔ اور حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ اور اگر وہ ہو مردار تو وہ سب اس (کے کھانے) میں شریک ہیں۔ عنقریب سزا دے گا وہ انہیں انکی تجویز پر۔ یقیناً وہ حکمت والا باخبر ہے۔

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُنُوبِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلَى
أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ
شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر علم کے اور جنہوں نے حرام ٹھہرایا جو رزق دیا انہیں اللہ نے افترا کر کے اللہ پر۔ بلاشبہ گمراہ ہو گئے وہ اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ
ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کئے باغات

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ

چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بے چڑھے ہوئے
 چھتریوں پر۔ اور کھجور اور کھیتی کہ مختلف ہیں جن
 کے پھل اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے
 ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے۔ کھاؤ انکے پھلوں
 میں سے جب وہ پھل لائیں اور ادا کرو اس کا
 حق اسکی فصل کاٹنے کے دن۔ اور نہ بیجا اڑاؤ۔
 یقیناً وہ نہیں دوست رکھتا بیجا اڑانے والوں کو۔

وَاٰخِرُ مَعْرُوْثٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا اَكْلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ
 ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَاَتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَاَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٤١﴾

اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین
 سے لگے ہوئے۔ کھاؤ اس میں سے جو رزق
 دیا تمہیں اللہ نے اور مت اتباع کرو شیطان
 کے قدموں کا۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن
 ہے۔

وَمِنْ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرَسًا
 كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَاَلَا تَتَّبِعُوْا
 خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُّبِيْنٌ ﴿٤٢﴾

آٹھ جوڑے ہیں یہ۔ بھیروں میں سے دو اور
 بکریوں میں سے دو۔ کھدو کہ کیا دونوں کے
 نروں کو حرام کیا ہے اس نے یا دونوں کی
 ماداؤں کو۔ یا جو لپٹ رہا ہے (بچہ) اس پر
 رحموں میں دونوں ماداؤں کے۔ خبر دو مجھے علم
 کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ
 وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ اَلذَّكَرَيْنِ
 حَرَّمَ اَمِ الْاُنثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ
 عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنثَيَيْنِ لَا نَبُوْنِيْ
 بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٣﴾

اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو۔
 کہو کیا دونوں نروں کو حرام کیا ہے اس نے یا
 دونوں ماداؤں کو یا وہ (جو بچہ) لپٹا ہوا ہے
 پیٹوں میں دونوں ماداؤں کے۔ کیا تم موجود تھے
 جس وقت حکم دیا تھا تم کو اللہ نے اس کا۔ تو
 کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے
 اللہ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم
 کے۔ بیشک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں
 کو جو ظالم ہیں۔

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
 قُلْ ءَالَّذَكَرْتُمْ حَرَّمَ أَمْ الْإِنثِيَيْنِ
 أَمْآ اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثِيَيْنِ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمْ اللَّهُ
 بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
 اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ

کہو کہ نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کیا گیا ہے
 مجھ پر کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ
 کھائے وہ اسے بجز اسکے کہ ہو وہ مردہ یا لہو
 بہتا ہوا یا گوشت سور کا۔ کہ بیشک یہ ناپاک ہیں
 یا کوئی گناہ کی چیز کہ نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر
 ۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ نافرمانی کرنیوالا
 ہو اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو یقیناً تیرا رب
 بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
 مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
 أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
 مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ
 رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
 فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور۔ اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دی تھی ہم نے ان پر انکی چربیاں۔ سوائے اسکے جو لگی ہو انکی پیٹھوں پر یا آنتوں میں یا جو ملی ہو ہڈی سے۔ یہ سزا دی تھی ہم نے انکو انکی سرکشی کے سبب اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٦﴾

پھر اگر تکذیب کریں یہ تمہاری تو کھدو تمہارا رب رحمت والا ہے بہت وسیع۔ اور نہیں ٹالا جاسکتا اسکا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٧﴾

کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ حرام ٹھیراتے ہم کوئی چیز۔ اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو تمھے ان سے پہلے۔ یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ کھدو کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم تو لاؤ اسے ہمارے سامنے۔ نہیں

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ

پیروی کرتے ہو تم مگر گمان کی اور نہیں ہو تم مگر
قیاس آرائیاں کرتے ہو۔

إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

کمدو کہ پس اللہ ہی کی حجت غالب ہے۔ پس
اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو۔

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

کمدو کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ
نے حرام کی میں یہ چیزیں۔ پھر اگر وہ گواہی
دیں تو نہ گواہی دینا تم ان کے ساتھ۔ اور نہ
پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے
جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان لوگوں کی نہیں
ایمان لاتے جو آخرت پر اور وہ اپنے رب کے
برابر ٹھہراتے ہیں (دوسروں کو)۔

قُلْ هَلْمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ
يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا
فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

کمدو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے
رب نے تم پر یہ کہ نہ شریک ٹھیراؤ اس کے
ساتھ کچھ بھی۔ اور ماں باپ سے حسن سلوک
(کرتے رہنا) اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی
(کے اندیشے) سے۔ ہم ہی رزق دیتے ہیں
تم کو اور انکو بھی۔ اور نہ قریب جاؤ بے حیائی

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

کے کاموں کے جو ہوں ظاہر ان میں اور جو ہوں پوشیدہ۔ اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس (کے قتل) کو حرام کر دیا ہے اللہ نے مگر جائز طور پر۔ یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے اس نے تمہیں جن کا تاکہ تم سمجھو۔

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَلِكَمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریق سے جو بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ذمہ دار بناتے ہم کسی جان کو مگر اسکی طاقت کے مطابق۔ اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اور اگرچہ کہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے اس نے تمہیں جن کا تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكْفُلُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

اور یہ کہ یہی ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے تو تم اسی پر چلو۔ اور نہ چلو دوسرے رستوں پر پس جدا کر دیں گے وہ تمہیں اس کے راستے سے۔ یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے اس نے تمہیں جن کا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

پھر عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب
 نعمت پوری کرنے کے لئے اس شخص پر جو
 نیکوکار ہے۔ اور تفصیل کے لئے ہر چیز کی۔
 اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے
 رب کے روبرو حاضر ہونے پر ایمان رکھیں۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى
 الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ
 رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ^ع

اور یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے اسے برکت
 والی۔ تو پیروی کرو اسکی اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ
 تم پر رحم کیا جائے۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ
 وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^ل

کہ ہمیں تم کو درحقیقت نازل کی گئی تھی کتاب
 دو ہی گروہوں پر ہم سے پہلے۔ اور بلاشبہ ہم
 تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے بیخبر۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى
 طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا^ص وَإِنْ كُنَّا عَنْ
 دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ^ع

یا کہو اگر یہ کہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو ہم
 ضرور ہو جاتے زیادہ ہدایت یافتہ ان لوگوں کی
 نسبت۔ سو یقیناً آگئی ہے تمہارے پاس روشن
 دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت
 اور رحمت۔ تو کون ہو گا بڑھ کر ظالم اس سے جو
 تکذیب کرے اللہ کی آیتوں کی اور منہ پھیر لے
 ان سے۔ عنقریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا
 الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ^ج مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ^ع فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا
 سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ

جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیات سے بدترین
عذاب کی اس لئے کہ وہ منہ پھیرتے تھے۔

أَيُّنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

کیا یہ منتظر ہیں اسکے سوا کہ آئیں ان کے پاس
فرشتے یا آئے خود تیرا رب یا آجائے کوئی
نشانی تیرے رب کی۔ جس دن آجائے گی کوئی
نشانی تیرے رب کی تو نہ فائدہ دے گا کسی
جان کو اس کا ایمان نہ لایا ہو جو ایمان اس سے
قبل یا کمالی ہو اس نے اپنے ایمان سے
بھلائی۔ کہدو کہ تم انتظار کرو یقیناً ہم بھی انتظار
کرتے ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَّا مِنْ قَبْلُ أَوْ
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ
انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

بیشک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا
اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے۔ نہیں ہے
تمہیں ان سے کچھ واسطہ۔ درحقیقت ان کا
معاملہ ہے اللہ کے ذمے۔ پھر وہ ان کو بتانے
گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لئے ہے
دس گنا اس جیسی (نیکی) کا۔ اور جو کوئی لائے

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

گا ایک برائی تو نہیں سزا دی جائے گی اسے
مگر اسی جیسی اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔

يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

کمدو کہ بیشک ہدایت دی ہے مجھے میرے
رب نے سیدھے راستہ پر۔ دین بالکل صحیح
طریقہ ابراہیم کا جو ایک (اللہ) ہی کی طرف ہو
کر رہا تھا۔ اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔

قُلْ إِنِّي هَدِيْتُ رَبِّيَ إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

کمدو بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا
جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو رب ہے
سارے جانوں کا۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَحَيَاتِي
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

نہیں کوئی شریک جنکا۔ اور اسی کا مجھ کو حکم دیا
گیا ہے اور میں ہوں سب سے اول فرمانبردار۔

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

کمدو کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں کوئی
رب۔ جبکہ وہی رب ہے ہر چیز کا۔ اور نہیں
کہتا کوئی شخص مگر وہ ہے اس ہی کے اوپر۔ اور
نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے
کا۔ پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِعِي رَبًّا ۖ وَهُوَ رَبُّ
كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

ہے تو وہ بتائے گا تمہیں وہ سب کچھ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین کا اور بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں تاکہ آزمائش کرے وہ تمہاری اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے۔ بیشک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ اور بیشک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

